

Eichendorffschule کے اسکول کے ضوابط کے

10 واضح اصول

1. ہم ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں۔ ہم جسمانی سزا پر یقین نہیں کرتے اور جب ہمیں جسمانی سزا اور بے عزتی کیے جانے کی بات معلوم ہوتی ہے تو ہم مدد/ مداخلت کریں گے۔
2. Eichendorffschule منشیات سے پاک ہے۔ سگریٹ نوشی اور نشہ آور اشیاء (جیسے الکحل) کو پورے اسکول کے احاطے میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔
3. ہم اپنے اسکول کو صاف رکھتے ہیں اور آلات کو، خاص طور پر تکنیکی اور کمپیوٹر رومز میں، احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ آلودگی کے خطرے کے سبب، پورے اسکول کے احاطے میں چیونگم ممنوع ہیں۔
4. ہم راہداریوں اور زینوں سے خاموشی سے گزرتے ہیں۔ اسکول کی عمارت میں شور و غل کرنے، چیخ پکار، دوڑنے اور دھکا دینے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔
5. ہم ہر کسی کے ذاتی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں اور ناگوار تصویریں کھینچنے اور فلم ریکارڈنگ بنانے کو برداشت نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے اسکول کے پورے احاطے میں الیکٹرانک آلات کو لازمی طور پر سوئچ آف رکھا جائے اور انہیں اس طرح ساتھ میں نہ رکھا جائے کہ وہ نظر آئیں (یہاں تک کہ بیڈفون بھی نہیں)
6. ہم کلاس روم میں کام کرتے اور سیکھتے ہیں، لہذا ہم کلاس کے دوران کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔
7. پورے اسکول کے احاطے میں گاڑیاں بالکل نہ استعمال کی جائیں (اسکیٹس، اسکوٹرز، یا اسی طرح کی چیزیں بھی)۔
8. کلاس روم میں کیپ، بیٹ، بوڈز پہننے کی اجازت نہیں ہے۔
9. جب تک میں سیکنڈری اسکول میں زیر تعلیم ہوں، میں اسکولی ایام میں اسکول کا ناغہ نہیں کروں گا/گی۔ استثنائت کے لیے مجھے اپنے والدین کی جانب سے منظوری کے اعلان کی ضرورت ہوگی۔
10. ہم ایک اسکول کمیونٹی ہیں۔ میں ہمیشہ اپنا طالب علم کا شناخت نامہ اپنے ساتھ رکھتا/رکھتی ہوں اور طلب کرنے پر اسے دکھا کر اپنی شناخت کرواتا/کرواتا ہوں۔

اگر اصولوں کی پابندی نہیں کی جاتی ہے تو، موزوں کارروائی کی جائے گی۔